


# QUICK START CARD



## Toggle Output Settings

Acer	[Fn] + [F5]
Asus	[Fn] + [F8]
Dell	[Fn] + [F8]
Gateway	[Fn] + [F4]
HP/Compaq	[Fn] + [F4]
IBM/Lenovo	[Fn] + [F7]
NEC	[Fn] + [F3]
Toshiba	[Fn] + [F5]

Mac Apple :

System Preferences⇒Display⇒  
Arrangement⇒Mirror display



P/N 36.8UA02G001-A

# QUICK START CARD




9

Adjust Focus  
Régler la mise au point  
Stellen Sie den Fokus ein  
Ajuste el enfoque  
Regolare la messa a fuoco  
Ajuste da focagem  
Pas de scherpstelling aan  
Wyreguluj Ostrość  
Настройте фокусировку  
Projektorin tarkennuksen säätö  
Justera fokus  
Juster fokus  
Juster Fokus


Προσαρμογή Εστίασης  
Élességállítás  
Upravilnost zaostření  
Odağı Ayarla  
ປັບໂຈກັສ  
調整對焦  
調整焦距  
[フォーカス]調整  
조점 조절  
Điềuchỉnh Tiêucự  
Setel Fokus  
Reglați Fokus

تنظیم فوکوس

ضبط البؤرة



10



## Warning!



### English

- ❑ Avoid staring directly into the projector beam at all times.
- ❑ Minimize standing facing into the beam. Keep your back to the beam as much as possible.

### Français

- ❑ Evitez à tout moment de regarder directement vers le faisceau du projecteur.
- ❑ Minimisez le temps passé face au faisceau. Restez dos au faisceau autant que possible.

### Deutsch

- ❑ Nicht direkt in den Projektor-Lichtstrahl schauen.
- ❑ Vermeiden Sie, mit dem Gesicht zum Projektor-Lichtstrahl zu stehen. Stehen Sie mit dem Rücken zum Projektor-Lichtstrahl.

### Español

- ❑ No mire al haz del proyector en ningún momento.
- ❑ Permanezca el mínimo tiempo posible de cara al haz. Dé la espalda al haz siempre que sea posible.

### Italiano

- ❑ Evitare sempre di guardare direttamente il raggio del proiettore.
- ❑ Evitare il più possibile di stare di fronte al raggio. Tenersi dietro al raggio per quanto possibile.

### Português

- ❑ Evite olhar diretamente para a luz do projector seja em que circunstância for.
- ❑ Evite ficar voltado de frente para a luz proveniente do projector. Mantenha-se de costas para a luz do projector o máximo possível.

### Nederlands

- ❑ Vermijd op elk ogenblik rechtstreeks in de straal van de projector te kijken.
- ❑ Ga zo weinig mogelijk in de straal staan. Houd zo veel mogelijk uw rug naar de straal gericht.

### Dansk

- ❑ Se aldrig direkte ind i projektorstrålen.
- ❑ Ungå så vidt muligt at stå vendt mod strålen. Vend ryggen til strålen så vidt muligt.

### Русский

- ❑ Никогда не смотрите прямо на луч проектора.
- ❑ Старайтесь не стоять лицом к лучу. Как можно чаще поворачивайтесь спиной к лучу.

### Suomi

- ❑ Vältä katsomasta suoraan projektorin valonsäteeseen.
- ❑ Seiso mahdollisimman vähän kasvoit kohti sädettä. Pidä selkäsi sädettä kohti niin paljon kuin mahdollista.

### Svenska

- ❑ Undvik alltid att titta direkt in i projektorstrålen.
- ❑ Stå så lite som möjligt vänd mot strålen. Håll din rygg mot strålen så mycket som möjligt.

### Norsk

- ❑ Unggå å se direkte inn i projektorstrålen til enhver tid.
- ❑ Unggå situasjoner hvor du står imot strålen. Stå med ryggen mot strålen så ofte som mulig.

### Polski

- ❑ Należy unikać bezpośredniego, stałego patrzenia na wiązkę światła projektora.
- ❑ Należy zminimalizować staniecie przed do światła projektora. Należy najczęściej na nie to możliwe ustawiać się tyłem do wiązki światła projektora.

### Ελληνικά

- ❑ Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα.
- ❑ Ελαχιστοποιήστε τις στιγμές που κοιτάτε στην ακτίνα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο.

### Magyar

- ❑ Soha ne tekintsen közvetlenül a sugárba.
- ❑ Minimálisan csökkentse a sugárral szemben töltött időt. Legtöbbet háttal álljon a sugárnak.

### Čeština

- ❑ Nedívejte sedelší dobu přímo do proudu světla z projektoru.
- ❑ Odracejte tvář co nejvíce od proudu světla. Odracejte se co nejvíce zády do proudu světla.

### Türkçe

- ❑ Projektor ışık kaynağı içerisinde direkt olarak bakmayınız.
- ❑ Projektor ışık kaynağı yüzünüze gelecek şekilde durmayınız. Işık kaynağına karşı olabildiğince arkanız dönük konumlanınız.

### ไทย

- ❑ หลีกเลี่ยงการมองที่ลำแสงไปเจ็ทเคียวโดยตรงทุกครั้ง
- ❑ หลีกเลี่ยงการยืนหันหน้าเข้าหาลำแสงโดยหันหลังให้ โหลโซ่งหลังหันเข้าหาลำแสงในทันทีที่สอดเทาที่จะทำไถ

### 繁體中文

- ❑ 請勿直視鏡頭內部。
- ❑ 請避免直接面對投影機光束並盡量背對直接照射。

### 简体中文

- ❑ 请勿直视镜头内部。
- ❑ 请避免直接面对投影机光束并尽可能背对直接照射。

### 日本語

- ❑ プロジェクタの光源に直接視視しないでください。
- ❑ プロジェクタの光源に向けて立たないでください。出来る限り、離れてください。

### 한국어

- ❑ 프로젝터 빛을 직접 응시하지 마십시오.
- ❑ 빛줄을 향하여 서는 행동을 자제하여 주시고 가능한 빛을 등지고 사용하십시오.

### Việt

- ❑ Luôn tránh nhìn thẳng vào chùm sáng của máy chiếu.
- ❑ Giảm thiểu đứng quay mặt vào chùm sáng. Hãy để lưng của bạn quay về chùm sáng càng nhiều càng tốt.

### Bahasa Indonesia

- ❑ Selalu hindari melihat langsung ke arah sinar proyektor.
- ❑ Minimalikan posisi berdiri menghadap ke arah sinar. Usahakan sedapat mungkin membelakangi sinar.

### Română

- ❑ Nu priviți în fasciculul luminos al proiectorului.
- ❑ Stați cât mai puțin timp cu fața la fasciculul luminos. Stați cu spatele la fasciculul luminos cât mai mult posibil.

### عربي

- ❑ تجنب النظر مباشرة إلى أشعة جهاز الإسقاط لفترة طويلة
- ❑ حاول التقليل من الوقوف مواجهًا للشعاع. وينصح بإعطاء الظهر للشعاع قدر المستطاع.

### فارسی

- ❑ از خیره شدن به پروژکتور در مدت زمان طولانی خودداری کنید
- ❑ مدت زمان ایستادن در مقابل پرتو را به حداقل برسانید. تا جایی ممکن پشتتان را به پرتوها کنید.